

تاریخ \_\_\_\_\_

طالب علم کا نام \_\_\_\_\_

عزیز والد / والدہ / سرپرست:

ورجینیا کے تمام اسکول ڈویژنوں میں ، انگریزی سے ہٹ کر ، یا اس کے علاوہ ، کوئی دوسری گھریلو زبان بولنے والے طلباء کی انگریزی زبان کی مہارت کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ آیا وہ دیگر زبانوں کے بولنے والوں کیلئے انگریزی (ESOL) کی خدمات کے اہل ہیں ۔

جب طلباء WIDA ACCESS for ELLs میں 4.4 یا اس سے زیادہ کا مجموعی اسکور حاصل کرتے ہیں تو انہیں انگریزی میں ماہر کا درجہ دیا جاتا ہے ۔ آپ کے بچے نے ان شرائط کو پورا کر لیا ہے اور ESOL خدمات سے باہر ہو گیا ہے ۔

طالب علم کو ESOL خدمات سے باہر نکلتے وقت ، درج ذیل استعمال کرنے اور سمجھنے کے قابل ہونا چاہیے:

- خیالات کا منظم ، مربوط ، اور مدلل اظہار
- گرائمر کے مختلف قسم کے ڈھانچے جو مقصد سے ہم آہنگ ہوں
- جملے کے نمونوں کی ایک وسیع رینج خاص شعبہ مضمون کی خصوصیت
- تکنیکی اور تجربی شعبہ مضمون کی زبان
- تمام شعبہ ہائے مضامین میں عین معنی کے ساتھ الفاظ اور اظہار بیان

وفاقی قانون کا تقاضا ہے کہ طلباء کی سابقہ MLS کے طور پر دوبارہ درجہ بندی کرنے کے بعد دو مکمل تعلیمی سالوں تک نگرانی کی جائے ، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ باقاعدہ تعلیمی پروگرام میں بامعنی طور پر حصہ لینے کے قابل ہیں ۔ فیئر فیکس کاؤنٹی پبلک اسکولز (FCPS) میں ، منتظمین ، کلاس روم کے اساتذہ ، اور ہر اسکول میں تعاون کرنے والے ٹیم کے ارکان آپ کے بچے کی تعلیمی کارکردگی کی مسلسل نگرانی کریں گے ۔ اس کے علاوہ ، ہر سمسٹر میں آپ کے اسکول کے پرنسپل یا نامزد اہلکار آپ کے بچے کی تعلیمی پیشرفت کو باضابطہ طور پر درج کریں گے جس میں مختلف معلومات کا جائزہ لیا جائے گا:

- معیاری یا اسٹینڈرائٹڈ کامیابی کے ٹیسٹس میں کارکردگی؛
- شعبہ ہائے مضامین کی کلاسوں میں گریڈز؛
- تفویض کردہ کلاس ورک ، ہوم ورک ، یا پراجیکٹس میں طالب علم کی کارکردگی؛ یا
- استاد / استانی کے مشاہدات ۔

اگر ضروری ہوا تو ، اسکول آپ کے بچے کی ضروریات کے پیش نظر مخصوص اصلاحات اور بہتری کیلئے معاونت کی نشاندہی کرے گا اور ان پر عمل درآمد کرے گا ۔ ان میں خصوصی کورسز ، مواد ، پروگرامز ، ٹیوشن کے مواقع ، اور سیکھنے کے لیے توسیع شدہ وقت شامل ہو سکتا ہے ۔ FCPS تمام طلباء و طالبات کی مناسب طریق سے خدمت کے لیے وقف ہے تاکہ وہ اعلیٰ تعلیمی معیار حاصل کر سکیں ۔

اگر آپ اپنے بچے کی پیش رفت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں ، تو براہ مہربانی اسکول میں اس کے اساتذہ سے رابطہ کیجیے ۔ اپنے بچے کی تعلیم کے لیے آپ کے مسلسل تعاون کا شکریہ ۔ ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں تاکہ آپ کے بچے کو اس کی مکمل تعلیمی صلاحیت تک پہنچنے میں مدد ملے ۔

مخلص ،

Rich Pollio  
Director, Office of ESOL Services